

22236-کیا انسان کے انحراف کا سبب مشیت الہی ہے

سوال

جب انسان گمراہ یا مخرف ہو جائے تو کیا یہ مشیت الہی کے سبب ہے یا کہ اللہ تعالیٰ اسکا فیصلہ نہیں کرتا؟

پسندیدہ جواب

الحمد للہ

شیخ شنقبطی رحمہ اللہ کا قول ہے :

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے "جبے اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے وہ راہ راست پر ہے اور جبے گمراہ کر دے تو یہ ناممکن ہے کہ آپ اس کا کوئی کار ساز اور راہنمایا سکیں" (الحکمت/17)
اللہ جل و علی نے اس آیت میں یہ بیان کیا ہے کہ ہدایت دینا اور گمراہ کرنا صرف اللہ وحده کے ہاتھ میں ہے تو جبے وہ ہدایت نصیب فرمادے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جبے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔

اور اسی معنی کی وضاحت بہت سی دوسری آیات میں کی گئی ہے۔

جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

"اور جبے اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب کرے تو وہی ہدایت یافتہ ہے اور جبے وہ راہ سے بھٹکا دے ناممکن ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس کا مددگار پائیں ایسے لوگوں کا ہم قیامت کے دن اوندھے منہ حشر کریں گے اور ان کا یہ حال ہو گا کہ وہ اندھے گونگے اور بھرے ہوں گے" (الاسراء/97)
اور فرمان باری تعالیٰ ہے۔

"جبے اللہ ہدایت دیتا ہے تو وہی ہدایت والا ہے اور جس کو وہ گمراہ کر دے تو ایسے ہی لوگ خسارے میں پڑنے والے ہیں" (الاعراف/178)

اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد :

"جبے آپ چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ تعالیٰ جی جبے چاہے ہدایت دیتا ہے" (القصص/56)

اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے۔

"اور جس کو فتنہ میں ڈالنا اللہ کو منظور ہو تو آپ اس کے لئے ہدایت الہی میں سے کسی چیز کے مختار نہیں" (المائدہ/41)

اور فرمان ربانی ہے :

"گو آپ انکی بدایت کے خواہش مند رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اسے بدایت نہیں دینا جسے گمراہ کر دے اور نہ ہی انکا کوئی مدگار ہوتا ہے" الحکم 37

اور فرمان باری تعالیٰ ہے :

"تو جس شخص کو اللہ تعالیٰ بدایت دینا چاہے تو اسکے سینہ کو اسلام کے لئے کشادہ کر دیتا ہے اور جس کو گمراہ کرنا چاہے اس کے سینہ کو بہت تنگ کر دیتا ہے جیسے کوئی آسمان میں چڑھتا ہے" الانعام 125

اور اس طرح کی آیات بہت ہی زیادہ ہیں۔

تو ان اور قرآن کی اس طرح کی دوسری آیات سے قدریہ کے مذہب کا باطل ہونا اخذ کیا جا سکتا ہے کہ : انسان اپنے عمل بھلائی اور برائی کرنے میں مستقل ہے اور یہ کہ یہ مشیت الہی نہیں بلکہ بندے کی اپنی چاہت ہے تو اللہ اس سے پاک اور بند بala ہے کہ اس کی ملک میں اسکی مشیت کے بغیر واقع کوئی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس سے بلند اور بڑا ہے۔۔